

تقریر ۱۳ مارچ ۱۹۱۴ء

(حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی وفات پر مسجد نور میں تقریر)

از

حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی

۱۳/ مارچ ۱۹۱۳ء کی مسجد نور میں تقریر (بعد نماز عصر)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اس وقت میں سب دوستوں کی خدمت میں چھوٹی سی عرض کرنی چاہتا ہوں۔ اور سچے دل سے نصیحت کرنی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا کے ماتحت حضرت خلیفۃ المسیح فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر بڑے بڑے رحم فرمائے۔ اپنی برکتیں ان پر نازل کرے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج پر انہیں ترقی دے اور وہ انہیں ان کے حقیقی دوست محبت اور پیارے جن سے انہیں ساری عمر محبت رہی جن کی محبت بلاشبہ انکے رگ و ریشہ میں تھی۔ یعنی آنحضرت ﷺ اور مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ان دونوں پیاروں کے ساتھ جگہ دے۔ (مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھی)

اس وقت احمدی جماعت کے اوپر بڑی ذمہ داری پڑ گئی ہے یہ ذمہ داری ہر بچہ و جوان اور بوڑھے پر ہے۔ ساری جماعت ایک امتحان کے نیچے ہے۔ وہ جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اور پاس ہو گیا۔ خدا کا پسندیدہ اور پیارا ہو گا۔ اور جو اس امتحان میں نفل ہو گیا۔ وہ خدا تعالیٰ کے حضور نیکو کاروں میں نہیں گنا جائے گا۔

ہم پر ایک ذمہ داری ہے ایک بوجھ ہے اس کو اٹھانے اور اس ذمہ داری میں پاس ہونے کے لئے خوب تیاری کرنی چاہئے۔ خوب یاد رکھو کہ کوئی کام کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ ہو

لیکن اگر ارادہ بد ہو تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ دیکھو نماز کیسی اعلیٰ چیز ہے۔ مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔
 فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (الماعون: ۵-۷) وہ
 نمازیں پڑھتے ہیں مگر اس نماز میں کوئی مغز اور حقیقت نہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ زید یا بکر نماز پڑھتا
 ہے۔ لیکن چونکہ اسکی غرض اس نماز میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے۔

اور ریاء ہے اس لئے جب اس میں ریاء شامل ہو گیا تو وہ پاک اور قرب الہی کا ذریعہ ہونے کی
 بجائے لعنت کا موجب ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ نکتہ قرآن مجید کے ابتداء میں خوب معلوم ہوتا ہے کہ
 قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے اَعُوْذُ پڑھنا چاہئے پھر ہر سورۃ سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے بعد الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ شروع ہوتی ہے۔ پھر بِسْمِ اللّٰهِ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے بعد اَلَمْ۔ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ شروع ہوتا ہے

اب غور کرو کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اَعُوْذُ کا جو حکم دیا گیا اور ہر سورۃ سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ
 رکھی تو کیا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ قرآن مجید میں کوئی شیطانی کام تھا۔ اور شیطانی دخل تھا۔ جو یہ تاکید فرمائی؟ اس
 میں شیطانی دخل نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک نیک کام میں نیک ارادہ شامل نہ ہو تو وہ برا
 اور خطرناک ہو جاتا ہے اس لئے ارادہ کی اصلاح اور پاکیزگی کے لئے یہ حکم دیا کہ قرآن مجید کے
 پڑھنے سے پہلے اَعُوْذُ پڑھو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کی
 توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل اور اعانت کے سوا نہیں ملتی اس لئے بِسْمِ اللّٰهِ کو رکھا جس میں استعانت ہے
 پس اَعُوْذُ کا حکم دیا اور بِسْمِ اللّٰهِ کو رکھا تاکہ مؤمنین نیت صاف کریں ایسا نہ ہو کہ بد ارادہ تباہ و ہلاک کر
 دے۔

بہت سے لوگ ہیں جن کے لئے ایک آیت رحم و برکت کا موجب ہو جاتی ہے اور بہتوں کے
 لئے وہی آیت ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ خدا نے فرمایا۔ اَعُوْذُ پڑھو یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اور
 بِسْمِ اللّٰهِ میں مدد مانگنے کی تعلیم دی۔

غرض کوئی کام کتنا ہی بڑا اور اعلیٰ اور پاک کیوں نہ ہو۔ جب تک اس میں نیک نیتی اور اخلاص
 نہ ہو اندیشہ ہے کہ وہ قرب الہی سے دور نہ پھینک دے۔ اب جو عظیم الشان امانت اور بوجھ ہم پر
 پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق کے بدوں ہم اس سے عمدہ برا نہیں ہو سکتے۔ اس لئے میں
 تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں۔ کہ جس قدر فرصت ملے۔ بہتر ہے ہم خدا کے حضور دعائیں کریں اور
 عاجزانہ التماس کریں کہ مولیٰ کریم! تو ہی سچا راستہ دکھا تاکہ گمراہی اور تباہی میں پڑنے کی بجائے

ہم تیرے قریب ہوں۔ یہ بڑی ذمہ داری اور بوجھ ہے جس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں جب تک اسی کی نصرت نہ آوے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بار بار اور کثرت سے پڑھو۔ ہم نہیں جانتے کل کیا ہو گا۔ پرسوں کیا ہو گا۔ ایک غیب کی بات پر ہاتھ مارنا ہے اگر غیب دان خدا مدد نہ کرے تو اندیشہ ہے ہلاکت میں پڑ جاویں اس لئے دعائیں کرو استغفار کرو۔ استخارے کرو۔ درود پڑھو۔ تڑپ تڑپ کر دعائیں کرو کہ مولیٰ تو ہی اپنے فضل سے اس امتحان میں کامیاب کر تیرا مسیح آیا۔ بہتوں نے انکار کیا اور وہ ٹھوکر کھا کر اس پتھر پر گرے اور ہلاک ہوئے۔ مگر تو نے اپنے رحم سے ہمیں ہدایت دی۔ پھر اسکی وفات پر پھر ایک موقعہ امتحان کا آیا۔ اور تو نے ہماری ہدایت فرمائی۔ اب پھر ایک اور موقعہ آیا ہے۔ اب بھی فضل کیجھو اور آپ ہماری رہنمائی کرو۔ ہمارے تمام کاموں میں برکت نازل کیجھو۔ دشمنوں کو خوش ہونیکا موقعہ نہ دیجھو اپنی خدمت کے لئے پاک وجود چن لے۔ اَللّٰهُمَّ آمین

سب لوگ اپنے دلوں میں چلتے پھرتے دعائیں کریں آج رات کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مشکلات حل کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر توکل کرو۔ اس کے وعدے سچے ہیں۔ اس نے جو اپنے مسیح موعود سے وعدے کئے۔ وہ پورے ہوئے اور ہونگے۔ ایک انسان جھوٹا وعدہ کر لیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہوتے ہیں وہ صَادِقُ الْوَعْدِ ہے۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں کی صداقت پر ایمان لاؤ۔ اور اسی پر توکل اور بھروسہ کرو۔ اب میں بھی دعا کرتا ہوں۔ تم بھی میرے ساتھ ملکر دعا کرو۔ اور اس کے بعد بھی دعائیں کرو۔

(اس تقریر کے بعد حضرت صاحبزادہ صاحب نے دعائیں پڑھ کر ہاتھ اٹھائے۔ خدا جانے دعائیں کیا سوز اور اہتال تھا کہ اس نے مسجد نور کو تھوڑی دیر کے لئے مسجد بکاء بنا دیا۔ کوئی آنکھ نہ تھی جو روتی نہ تھی۔ اور دلوں میں ایک سوز تھی۔ بڑی لمبی دعا کے بعد ایک ایسی تجلی معلوم ہوتی تھی۔ کہ بجلی کی طرح دلوں پر سکینت کا نزول ہوا۔ دعا کے بعد حضور بیٹھ گئے۔ لوگوں میں ایک قبولیت اور جوش تھا پھر فرمایا کہ دو کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ کل روزہ رکھیں۔ اس حکم اور ارشاد کے بعد آپ مسجد نور سے اٹھے اور نواب صاحب کے مکان پر تشریف لے گئے۔)